

سٹی قابل استحکام تعمیر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے

برامپٹن، آن – بدھ، 27 جون کو منعقد ہونے والی اپنی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے عملے کی جانب سے ایک سفارش کو منظور کیا ہے جس کے مطابق تمام نئی سائٹس، ڈرافٹ اور بلاک منصوبے کی تیاری کی درخواستوں کو سٹی کی سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائیڈ لائنیز کی جانب سے مختص کردہ استحکام کے اسکور میں سے لازمی طور پر کم از کم ایک برونز تھریش ہولڈ حاصل کرنی چاہیے۔

سٹی آف برامپٹن قابل استحکام کمیونٹیوں کی منصوبہ بندی اور تیاری میں ایک جامع طرز انداز اپناتا ہے۔ سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائیڈ لائنیز اور سسٹین ایبلٹی اسمنٹ ٹول دو ایسے آلات ہیں، جنہیں تعمیر کی نئی درخواستوں کی ماحول کے لیے قابل استحکام ہونے میں کارکردگی جانچنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائیڈ لائنیز سٹی کی ڈیولپمنٹ ڈیزائن گائیڈ لائنیز کا حصہ ہیں۔ یہ نئی کمیونٹیوں اور عمارتوں کی منصوبہ بندی اور تیاری میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے معیار سے متعلقہ پیمانے قائم کرتے ہیں، جو ثانوی اور بلاکوں کی منصوبہ بندی، ذیلی تقسیم اور جگہ کے منصوبوں پر نظر ثانی اور جانچ کرنے کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں۔

سٹی کی سسٹین ایبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ گائیڈ لائنیز دستاویز کے علاوہ، سٹی آف واہگن اور ٹاؤن آف رچمونڈ ہل کے ساتھ اشتراک میں سٹی نے ایک سسٹین ایبلٹی اسمنٹ ٹول تیار کیا ہے، جس میں نئی تعمیری درخواستوں کی ماحول کے استحکام کے حوالے سے کارکردگی کی جانچ اور درجہ بندی کرنے کے لیے مختص پیمانے اور ہدف موجود ہیں۔ استحکام کے 50 سے زیادہ پیمانوں کے ساتھ، برامپٹن میں تعمیر کاروں کے پاس برامپٹن کی برونز تھریش ہولڈ حاصل کرنے کے لیے کئی انتخابات موجود ہیں۔ حالیہ طور پر مطلوب شدہ برونز تھریش ہولڈ حاصل کرنے کے لیے، جگہ کے منصوبے کی تیاری کی درخواستوں کو 35 سے 52 پوائنٹس حاصل کرنے چاہیں، ڈرافٹ منصوبوں کو 29 تا 39 پوائنٹس جبکہ بلاک کے منصوبوں کو 30 تا 38 پوائنٹس حاصل کرنے چاہیں۔

استحکام برامپٹن 2040 ویژن کا کلیدی مرکزی خیال ہے۔ یہ ویژن برامپٹن کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ نیم شہری علاقہ بننے کے لیے جگہ بنانا ہے، جو رہنے کی قابلیت، استحکام، مسابقت اور لچک پر زور دیتا ہے اور مستقبل کے لیے سمتوں کی شناخت کرتا ہے۔ 2040 تک جاتے ہوئے، سٹی ایسی انمام کن منصوبہ بندی اور تعمیر کے ذریعے استحکام اور لچک کو ترجیح دے گا، جو لوگوں، اس زمین اور منافع بخش پر طویل مدتی اثر کو زیر غور لائے گی۔

استحکام کے بارے میں مزید معلومات اور برامپٹن 2040 ویژن پڑھنے کے لیے، www.brampton.ca ملاحظہ کریں

اقتباس

"تعمیر کی اپلیکیشنز سے استحکام کا ایک کم از کم درجہ حاصل کرنے کا تقاضہ کر کے، سٹی زیادہ قابل استحکام تعمیر کا راستہ بنا رہا ہے۔ ہمیں اس بارے میں اعتماد ہے کہ تعمیری کمیونٹی اپنے مقامی ماحول کی مدد کرنے کے اس موقع کو پوری طرح قبول کرے گی اور ہم برامپٹن کو مزید ماحولیاتی طور پر ذمہ دارانہ طریقے سے بڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے پر امید ہیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

